

ROOTWORDS OF SURAH AL AN'AM 100-110

يُدْرِكُ	تُدْرِكُ+ه	بَدِيعُ	يَصِفُونَ	خَرَقُوا
درک	درک + ضمیر مفعول بہ	ب د ع	و ص ف	خ ر ق
پالیتا ہے	پاسکتیں + اس کو	نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے	وہ وصف بیان کرتے ہیں	انہوں نے تراش لیے
(can) grasp	grasp Him	Originator	they attribute	they falsely attribute

فَ+يَسُبُّوا	تَسُبُّوا	دَرَسُ+ت	بَصَائِرُ	اللَّطِيفُ
حرف + س ب ب	س ب ب	د ر س + ضمیر	ب ص ر	ل ط ف
تو + وہ گالی دیں گے	تم گالی دو	پڑھ کر آیا + تو	کھلی دلیلیں	باریک بین ہے
lest they insult	insult	"You have studied"	enlightenment	the All-Subtle

أَفْئِدَتَ+هُمْ	نُقَلِّبُ	يُشْعِرُ+كُمْ	أَيْمَانِ+هِمْ	جَهْدَ
ف ا د + ضمیر	ق ل ب	ش ع ر + ضمیر مفعول بہ	ی م ن + ضمیر	ج ہ د
دلوں کو + ان کے	ہم پھیر رہے ہیں	سمجھائے + تم کو۔ شعور دے + تم کو	قسمیں + اپنی	کپی
their hearts	We will turn	will make you perceive	(of) their oaths	Strongest

يَعْمَهُونَ	طُغْيَانٍ + هُمْ	نَذَرُ + هُمْ	مَرَّةٍ
ع م ه	ط غ ي + ضمير	و ذ ر + ضمير مفعول به	م ر ر
وہ بھٹکتے پھرتے ہیں	سرکشی + ان کی	ہم چھوڑ دیتے ہیں + ان کو	مرتبہ
wandering blindly	their transgression	We will leave them	time